



## رسول اللہ ﷺ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑے کا شور سنا

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑے کا شور سنا، تو آپ ان جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: ”میں ایک انسان ہی ہوں میرے پاس کوئی فیصلہ کے لیے جھگڑا لے کر آتا ہے اور وہ سب سے تم میں سے کوئی دوسرے کی بے نسبت زیادہ عمدگی سے بات کرے، جس کی بنا پر میں سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو جس شخص کو میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں، اسے جان لینا چاہیے کہ یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو وہ اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے“

[صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ نے کچھ جھگڑنے والوں کی ملی جلی آوازیں سنیں، جو آپ کے دروازے کے پاس جھگڑا اور بحث کر رہے تھے آپ ان کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور فرمایا: ”میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، میں غیب نہیں جانتا اور نہ مجھے مخفی امور کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جن کی بنا پر مجھے معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے؟ جن لوگوں کے مابین جھگڑا ہوتا ہے، وہ میرے پاس فیصلہ کرانے آتے رہتے ہیں اور میرا فیصلہ فریقین کے پیش کردہ دلائل اور قسموں پر مبنی ہوتا ہے اور سب سے تم میں سے کوئی زیادہ فصیح و بلیغ اور قادر الکلام ہے اور میں اسے سچا سمجھتا ہوں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ اندرونی حقائق کی رو سے اس کا مد مقابل حق پر ہے تو جان لو کہ میرا فیصلہ ظاہری امور پر مبنی ہوتا ہے، نہ کہ باطنی امور پر چنانچہ میرے فیصلے کی وجہ سے کوئی حرام شے حلال نہیں ہوجاتی اس لیے اگر میں کسی کو کسی دوسرے کا حق دے دوں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ باطل پر ہے تو میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں، چاہے تو وہ اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے اس کا عقاب اسی کو ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی گھات میں رہتا ہے“

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2959>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

